

ti o wa lɔdɔ Ɔlɔhun lore ju eré idaraya ati òwò šìṣe lɔ, atipe Ɔlɔhun ni Olupese ti O dara julɔ.

(63) Suratul Munāfikūna

*Ni orukɔ Ɔlɔhun Ajokɛ aiyɛ,
Ašakɛ orun.*

1. Nigbati awon alagabagebe ba wa si ɔdɔ rɛ, nwon yio sɔpe: Dajudaju awa jeri pe Ojiṣe Ɔlɔhun ni irɛ. Ɔlɔhun si mɔ pe dajudaju Ojiṣe On ni irɛ jɛ. Ɔlɔhun si ti jeri pe dajudaju opurɔ ni awon alagabagebe (Munāfikūna).

2. Nwon fi awon ara bubu won se idabobo (fun arawon), nwon sinšeri (awon enia) kuro ni oju ona Ɔlɔhun. Dajudaju aidara ni ohun ti nwon se niše.

3. eyini je be nitoripe nwon gbagbo, lehinna nwon tun se aigbagbo nitorina a ti fi odidi di okan won, nwon ko ni gbɔ agboye.

4. Atipe nigbati o ba ri won ara won yio jo o loju; bi nwon ba si soro, ire o teti si oro won. Nwon da gegebi igi patako ti a fi ti (ogiri). Nwon a ma ro gbogbo ibosi (kike) le ara won lori, awon wonyi ni ota, nitorina so ara re lodɔ won. Ibi Ɔlɔhun ki o ma ba won, bawo ni nwon se le ma ngunri.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ بِأَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

أَتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

﴿٤﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا
تَسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْتَنْدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ
صَاحِبَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُو فَاذْهَبْهُمْ فَيُلْهِمُهُمُ اللَّهُ
أَنْ يُؤْفِكُونَ ﴿٥﴾

5. Atipe nigbati a ba sọ fun wọn pe: E wa nibi ki Ojişę Qlọhun wa idariji fun nyin, nwọn a si gbọnri wọn atipe irẹ o ri wọn ti nwọn o ma şeri ni ti oluşe igberaga.

6. Bakanna ni fun wọn o tọrọ idariji fun wọn abi o kò tilẹ tọrọ idariji, Qlọhun kò ni fi oriji wọn. Dajudaju Qlọhun na kò ni fi awọn ijọ obilẹjẹ mọna.

7. Awọn na ni ẹniti nwọn nsọpe: E kò gbọdọ na wó (nyin) fun awọn ti nwọn wà ni ọdọ Ojişę Qlọhun titi nwọn yio fi tuka (kuro ni ọdọ rẹ). Bẹ si ni ti Qlọhun ni pẹpẹ ọrọ ti sanma ati ti ilẹ, şugbọn awọn koşe-eku-koşe eiyẹ enia kò gbọ agboye.

8. Nwọn yio wa sọpe: Dajudaju bi awa ba pada de sinu (ilu) Madina, dajudaju awọn alagbara (ilu na) yio wa yọ awọn ẹni yẹpẹ jade kuro ninu rẹ. Şugbọn ti Qlọhun ni agbara ati ti ojişę Rẹ ati ti awọn agba (Qlọhun) gbọ lododo, şugbọn awọn alagabagebe nwọn kò mọ bẹ.

9. Ẽnyin onigbagbọ ododo, ẹ maşe jẹ ki awọn owo nyin ati awọn ọmọ nyin ko airoju ba nyin kuro nibi iranti Qlọhun; ẹnikeńi ti o ba şe eyi, nigbana awọn elewọnni jẹ ẹni-ofò.

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا
رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ
رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يُنْفِقُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ
أَعْرَضُ مِثْلَ الْأَذَىٰ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَأَنْتُمْ كَرِيمٌ أَمْوَالُكُمْ
وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

10. Ati ki ɛ wa na ninu ohun ti A ɛ ni ese fun nyin ɕiwaju ki iku to de wa ba ɛnikan nyin, depo ti yio fi ma sɔpe: Oluwa mi, kiloɕe ti O kò lɔ mi lara di igba kanti o sunmɔ, ki emi le fi tɔrɔ anu ati ki nle jɛ ɔkan ninu awɔn ɛni rere.

11. Atipe Qlɔhun kò ni lɔ ɛmikan lara nigbati akoko rɛ ba de, atipe Qlɔhun na ni Alamɔtan ohun ti ɛ nɕe.

(64) Suratul - Tagābunu

*Ni orukɔ Qlɔhun Ajɔkɛ aiyɛ,
Aɕakɛ ɔrun.*

1. Ohun ti mbɛ ninu sanma ati ohun ti mbɛ ninu ilɛ nɕe afɔmɔ fun Qlɔhun. ti Rɛ ni ɔla, atipe ti Rɛ ni ɔpɛ; atipe On ni Alagbara lori gbogbo nkan.

2. On ni ɛniti O ɕe ɛda nyin, alaigbagbɔ mbɛ ninu nyin atipe onigbagbɔ ododo si mbɛ ninu nyin. Atipe Qlɔhun na ni Oluri ohun ti ɛ nɕe.

3. On da sanma ati ilɛ pɛlu ododo, O si ya awɔn aworan nyin, O si ɕe awɔn aworan nyin na daradara; atipe ɔdɔ Rɛ ni ɛ o padasi.

4. O mɔ ohun ti mbɛ ninu sanma ati inu ilɛ, O si mɔ ohun ti ɛ fi npamɔ ati ohun ti ɛ nɕe afihan rɛ

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٤﴾

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾

سُورَةُ التَّغَابُنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْجُدُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٧﴾

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٦٨﴾

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ
وَمَا تُنْزِرُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٩﴾